



سوال

(219) یادداشت کے لیے اپنی تصویر گھر میں رکھنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

یادداشت کے لیے اپنی تصویر بنا کر گھر رکھنا یا پھر والدین کی؟ اور کتابوں کی تصاویر کے بارے میں وضاحت فرمائیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

تصویر خواہ اپنی ہو یا والدین وغیرہ کی بطور یادگار لپٹنے پاس رکھنا حرام ہے صحیح حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: جو تصویر یا مجسمہ دیکھو اسے مٹا دو اور جو قبر اونچی دیکھو اسے برابر کر دو اور دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصوروں کو ہوگا (مسلم)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ

ج 1 ص 533

محدث فتویٰ